



13.10.2022

Learned counsel for the appellant present. Mr. Asif Masood Ali Shah, Deputy District Attorney for the respondents present.

Learned counsel for the appellant sought adjournment on the ground that he has not made preparation for arguments. Adjourned. To come up for arguments before the D.B on 30.11.2022.



(Mian Muhammad)
Member (E)




(Salah-ud-Din)
Member (J)

30.11.2022

Junior of learned counsel for the appellant present. Mr. Muhammad Raziq, Head Constable alongwith Mr. Muhammad Jan, District Attorney for the respondents present.

As learned Member (Executive) Mr. Mian Muhammad was not feeling well and has proceeded on short leave, therefore, arguments could not be heard. Adjourned. To come up for arguments on 26.01.2023 before the D.B.




(Salah-ud-Din)
Member (J)

SCANNED
KPT
Peshawar

26-1-23

proper DB is not available,
The case is adjourned to 10-5-23





Render

09.11.2021 Counsel for appellant present.

Muhammad Riaz Khan Paindakheil learned Assistant Advocate General for respondents present.

Reply of respondents has already been submitted in office. Request for adjournment was made on behalf of appellant; granted. To come up for arguments on 02.03.2022 before D.B.


(Mian Muhammad)
Member (E)


(Rozina Rehman)
Member (J)

02.03.2022

Due to retirement of the Worthy Chairman, the Tribunal is defunct, therefore, case is adjourned to 07.06.2022 for the same as before.

7.6.22

Propose D.B. Usan Tawar, Reader the case is adjourned to 24.8.22 for same.


Reader

24.08.2022

Learned counsel for the appellant present. Mr. Muhammad Jan, District Attorney for the respondents present.

Learned counsel for the appellant submitted rejoinder, copy of which is handed over to the learned District Attorney. To come up for arguments on 13.10.2022 before the D.B.


(Rozina Rehman)
Member(J)


(Salah-Ud-Din)
Member(J)

11499/2020

22.06.2021

Appellant in person and Mr. Kabirullah Khattak, Addl. AG alongwith Abdur Razaq, Reader for the respondents present.


Respondents have not submitted reply/ comments. Learned AAG seeks time to contact the respondents and submit reply/comments. Learned AAG is required to contact the respondents for submission of written reply/comments in office within 10 days, positively. If the written reply/comments are not submitted within the stipulated time, the office shall submit the file with a report of non-compliance. File to come up for arguments on 09.11.2021 before the D.B.

Stipulated period has passed and reply has not been submitted.


Chairman

P.S

05.07.2021

 Learned Addl: A.G be reminded about the omission and for submission of Reply/comments within extended time of 10 days.


Chairman

03.02.2021

Counsel for the appellant present.

Learned counsel stated that the appellant was awarded major penalty of dismissal from service and the period of his absence was treated as "without pay" through impugned order dated 29.05.2017. His departmental appeal, submitted on 03.06.2020, was not responded to, hence the instant appeal. Speaking about merits of the case, it was argued that proper departmental proceedings were not conducted against the appellant in accordance with the relevant rules. He was not issued statement of allegations, the charge sheet or proper final show cause notice before passing of impugned order.

Explaining apparent delay between the passing of impugned order and submission of departmental appeal, it was stated that the appellant was subject^{ed} to enforced disappearance for about three (03) years. A report to that effect was duly lodged by his brother in daily diary dated 27.03.2017. Upon the return of appellant the departmental appeal was preferred by the appellant without wasting any further time.

In view of the available record and arguments of learned counsel the appeal in hand is admitted to regular hearing subject to all just exceptions. Appellant is required to deposit security and process fee within 10 days. Thereafter, notices be issued to the respondents for submission of written reply/comments on ^{03.05.2021}~~03.04.2021~~ before S.B.

Appellant Deposited
Security & Process Fee


Chairman

03.05.2021

Due to demise of the Worthy Chairman, the Tribunal is non-functional, therefore, case is adjourned to 22.06.2021 for the same as before.





Reader

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 11499 /2020

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	02/10/2020	<p>The appeal of Mr. Muhammad Arshad presented today by Mr. Javed Iqbal Gulbela Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p> <p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>16/11/2020</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p> <p>16.11.2020</p> <p>Appellant in person present.</p> <p>Requests for adjournment as his learned counsel is not in attendance due to third day of mourning the demise of Honourable Chief Justice, Peshawar High Court. The matter is, therefore, adjourned to 03.02.2021 before S.B.</p> <p style="text-align: right;"> Chairman</p>

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A. 11499 /2020

Muhammad Arshad

VERSUS

Inspector General of Police and Others


INDEX

<i>S#</i>	<i>Description of Documents</i>	<i>Annex</i>	<i>Pages</i>
1.	Grounds of Appeal		1-7
2.	Affidavit.		8
3.	Addresses of Parties.		9
4.	Copy of Mad Report	"A"	10
5.	Copies of different Applications	"B"	11-16
6.	Copy of impugned office order dated: 29-05-2017	"C"	17
7.	Copy of Departmental Appeal	"D"	18
8.	Other Documents	"E"	19-21
9.	Wakalatnama		22

Dated: 21/09/2020


Appellant

Through


JAVED IQBAL GULBELA
Advocate High Court
Peshawar.

①

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A _____/2020

Muhammad Arshad Ex-Constable No. 5997 S/o Abdul
Haleem R/o Mohallah Ghari Meer Rehman P/O
Khazana Payan, Tehsil & District Peshawar.

----- (*Appellant*)

VERSUS

1. Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa.
2. Superintendent of Police Headquarter, at Police
Line, Peshawar
3. Capital City Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, at
Police Line Peshawar.

----- (*Respondents*).

**APPEAL U/S 4 OF KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL ACT 1974 AGAINST
THE IMPUGNED OFFICE ORDER NO. 2547-
52/PA/SP DATED 29-05-2017 OF THE OFFICE
OF SUPERINTENDENT OF POLICE
HEADQUARTER, PESHAWAR, WHEREBY
THE APPELLANT WAS DISMISSED FROM
SERVICE IN A CLASSICAL, CURSORY &
WHIMSICAL MANNER**

Respectfully Sheweth

1. That the Appellant is a naturally born bonafide citizen of Islamic Republic of Pakistan and hails, from a respectable family of District Peshawar.
2. That after going through the mandatorily required criteria and after being envisaged with the ordeals and inquisition of selection process, the appellant got inducted into Police Force as constable years ago.
3. That Appellant has thoroughly been a devoted, punctual, obedient and pragmatic member of the force, who never compromised upon his service and has never left any stone unturned in performance of his duties.
4. That it was in the backdrop of 2017, the Appellant was performing his duties in Police Lines, Peshawar that on 25-03-2017, the Appellant was kidnapped by some unknown peoples from Police Lines, Peshawar. **(Copy of Mad Report is annexed herewith as Annexure "A").**

③

5. That as the Appellant was kidnapped from the highly security zone and no whereabouts of the Appellant were known to the family of the Appellant. The case of Appellant was one of missing persons case, this fact is evident from the record and the brother of the Appellant moved many applications in this regard to the official concerned but futile. **(Copies of different Applications are annexed herewith as Annexure "B")**.

6. That as Appellant was missing from 25-03-2017 and was in illegal detention, but was dismissed from service vide impugned office order No. 2547-52/PA/SP dated: 29-05-2017 of the office of Superintendent of Police Headquarter, Peshawar, which is not only illegal, unlawful but also malicious to the core. **(Copy of impugned office order No. 2547-52/PA/SP dated: 29-05-2017 is Annexed as Annexure "C")**.

7. That feeling aggrieved the Appellant moved a Departmental Appeal against the impugned dismissal order but here again the deuce fate of the Appellant prevailed and despite the lapse of statutory period the same was not decided. **(Copy of**

(4)

Departmental Appeal is annexed herewith as Annexure "D").

8. That from the supra mentioned episode the grievances that come into existence and having no other efficacious remedy & forum to be addressed at, the Appellant approaches this Hon'ble tribunal inter alia, on the following grounds.

GROUND:

- A. That the impugned dismissal order is illegal, unwarranted, against the facts and circumstances and is liable to be set-a-side.
- B. That no inquiry whatsoever was ever conducted in presence of the Appellant nor any inquiry dispensation order was ever issued, even then the major penalty was imposed upon the Appellant which is against the law governing the subject & rules therein.
- C. That no charge sheet & no statement of allegations were ever issued to the Appellant & thus the mandatory instruments of law are missing in case of the Appellant.
- D. That even no proper right of defense was ever extended to the Appellant nor was heard in

(5)

person & even then the harshest penalty was imposed which on part of the respondent Police department is an unlawful act.

E. That even no Final Show Cause Notice was ever issued which is a mandatory provision of law even if no inquiry is made or advised or dispensed with.

F. That the opportunity of personal hearing was also not extended to the Appellant and thus was condemned unheard & because of the same grave violation of the Rules took place in case of the Appellant.

G. That it pertinent to mentioned here that the case of the Appellant was one of missing persons and whereabouts of the Appellant were unknown till 2020. On 01-05-2020, the Appellant was released and he reported in Police Line, Peshawar. On approaching Police Lines and reporting for duties, the appellant was informed that he has been dismissed for has alleged absence. So on the very next day preferred his Departmental Appeal for reinstatement into service with all back benefits.

H. That because of the aforementioned uncertainty, the Appellant was unable to join

6

and performed his duties as he was confined in illegal custody for almost Three (03) years.

- I. That from every angle the impugned dismissal order is wrong illegal unwarranted and is liable to be set-a-side, and the Appellant is entitled to be re-instated into service with all back benefits.
- J. That any other ground not raised here may graciously be allowed to be raised at the time of arguments.

It is therefore, most humbly prayed that on acceptance of the instant Service Appeal, the impugned office order No. 2547-52/PA/SP Dated 29-05-2017 of the Office of Superintendent of Police, Headquarter, Peshawar may kindly be set-aside and by doing so the Appellant may very graciously be reinstated into service with all back benefits.

Any other relief not specifically asked for may also graciously be extended in favor of the Appellant in the circumstances of the case.

7

Dated: 21/09/2020


Appellant

Through


JAVED IQBAL GULBELA
SAGHIR IQBAL GULBELA
AHSAN SARDAR

&
TAHIR KHAN
Advocates High Court
Peshawar.

NOTE:-

No such like appeal for the same appellant upon the same subject matter has earlier been filed by me before this Hon'ble Tribunal.


Advocate

(8)

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A _____/2020

Muhammad Arshad

VERSUS

Inspector General of Police and Others


AFFIDAVIT

I, Muhammad Arshad Ex-Constable No. 5997 S/o Abdul Haleem R/o Mohallah Ghari Meer Rehman P/O Khazana Payan, Tehsil & District Peshawar, do hereby solemnly affirm and declare that all the contents of the accompanied appeal is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld from this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT

CNIC#:

Identified By :


Javed Iqbal Gulbela
Advocate High Court
Peshawar.



(9)

**BEFORE THE HONBLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICES TRIBUNAL PESHAWAR**

In Re S.A _____/2020

Muhammad Arshad

VERSUS

Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa and
Others

ADDRESSES OF PARTIES


APPELLANT.

Muhammad Arshad Ex-Constable No. 5997 S/o Abdul
Haleem R/o Mohallah Ghari Meer Rehman P/O
Khazana Payan, Tehsil & District Peshawar.


RESPONDENTS:

1. Inspector General of Police, Khyber Pakhtunkhwa.
2. Superintendent of Police Headquarter, at Police
Line, Peshawar
3. Capital City Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa,
at Police Line Peshawar.

Dated: 21/09/2020


Appellant

Through


JAVED IQBAL GULBELA
Advocate High Court
Peshawar.

ماریٹ کریدر خان 14:44 نمبر مورخہ 27-03-07 کو وقت میں ماریٹ خان

ولد علم الخلم جس نے 36 سال ساکن حرانہ پاپان بشمول مسعود الرحمن ولد مسری خان ساکن الد آباد پاپان پھانہ آسری ایک شری پری درو اور ایک پیکر کی جوڑی میں ذیل کے طور پر 2005 میں پاپان حرانہ علی شاعر جناب عالی کے پاس بھیجے اور پھر اچانی پھر ارشد مسری کی مراد ای کی جوڑی کے لئے 2005 میں پاپان پھانہ آسری ایک شری پری درو اور ایک پیکر کی جوڑی میں ذیل کے طور پر 2005 میں پاپان حرانہ علی شاعر کی جوڑی کو ایسی لائی جلا گیا ہے جو کہ مراد ای کی مراد ای میں ہے جو پاپان

ماریٹ خان 2005-03-27 (1) 03459223681 کوئی تیز آر جی پی پاپان میں پری ماریٹ خان کے لئے اور پھر اچانی پھر ارشد مسری کی مراد ای کی جوڑی میں ذیل کے طور پر 2005 میں پاپان حرانہ علی شاعر کی جوڑی کو ایسی لائی جلا گیا ہے جو کہ مراد ای کی مراد ای میں ہے جو پاپان

پاپان (پہلے) ماریٹ خان کی جوڑی میں پاپان حرانہ علی شاعر کی جوڑی میں ذیل کے طور پر 2005 میں پاپان حرانہ علی شاعر کی جوڑی کو ایسی لائی جلا گیا ہے جو کہ مراد ای کی مراد ای میں ہے جو پاپان ماریٹ خان کے لئے اور پھر اچانی پھر ارشد مسری کی مراد ای کی جوڑی میں ذیل کے طور پر 2005 میں پاپان حرانہ علی شاعر کی جوڑی کو ایسی لائی جلا گیا ہے جو کہ مراد ای کی مراد ای میں ہے جو پاپان

جناب عالی

نقل مطابق اصل ہے

[Handwritten Signature]

mm- ps- R142

27-03-07

بخدمت جناب آئینہ مصور جموں صاحبہ جی پیرس ڈیفنس آف بیرونی ڈیپارٹمنٹ

① "B" Anneau جناب عالی!

مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا بھائی محمد ارشد ولد عبد الحکیم سکندر محلہ گڑھی پشاور
فزانہ ڈاکخانہ فزانہ تحصیل و ضلع پشاور کارپائٹری ہے اور پولیس لائن
پشاور میں بطور سپاہی پشاور پولیس میں گزشتہ 7 سال سے اور پولیس لائن میں
گزشتہ 6 سال سے ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دے رہا تھا۔ 29 مارچ 2017
کو ذات ڈیوٹی پر گیا اور ساری ذات ڈیوٹی سرانجام دی صبح 3:30 بجے ڈیوٹی کی
بندوبست جمع کرانی اور لائن پر جانے کے لیے گیا۔ اس کے بعد سے محمد ارشد
لاپتہ ہے۔ پولیس لائن کے سیکورٹی کیمپ میں محمد ارشد پولیس لائن سے
باصرف نکلنے کی بجائے نہیں دیکھے گئے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میرا
بھائی پولیس لائن کے اندر سے ہی لاپتہ ہوا ہے۔
جناب عالی! میرا بھائی پولیس کا سپاہی ہے جو ذات محنت مزدوری کر کے
رہتا اور بیوی بچوں کا گزر بسر کر رہا تھا اس کے 3 بچے ہیں جو ذات اپنے
بار کربا کر کے روتے ہیں لہذا اس طرح کی سرکاری سرکاری قانونی مدد
کی جائے اور میرے بھائی کو بازا پر کرایا جائے۔

آپ کی خدمت کی اعلیٰ گزارش ہوگی - العارضی -
احسان اللہ ولد عبد الحکیم -
سکندر محلہ گڑھی رحمان صیہ فزانہ
تحصیل و ضلع پشاور

احسان

وزارت داخلہ
نیشنل کرائم ایجنسی
اطلاعات
(051-9205501)



12

لاہور افراد کے کوائف

کیس نمبر

پاکستان _____ شناختی کارڈ نمبر _____ 17301-7456895-9

نام _____ راجد _____

ولدیت _____ عبد الحلیم _____ جنس (مرد/عورت) _____ عمر _____

تہ اجناس _____ 5.5 درمیانہ _____ رنگ _____ گندمی _____ جسمانی حالت _____ ٹنڈر/سخت _____

شناختی علامات _____ گولہ نہیں _____

مذہب _____ اسلام _____ فرقہ _____ قوم _____ قوم اعراب _____ ازدواجی حیثیت _____ شادی شدہ _____

پیشہ _____ سپاہی پشاور پولیس _____ تعلیمی قابلیت _____ اہلیت _____ صیغہ _____

سہارا کوٹھڑی _____ 25-3-2017 _____ سر وقت آئی _____ صبح _____ 6:30 سے _____ 7:00 بجے کے درمیان _____

غور کرنے کی جگہ _____ پولیس لائن پشاور _____

غور کرنے کا پیرا _____ رات کو پولیس لائن ڈیوٹی پیر گیا۔ ساری رات ڈیوٹی سرانجام دی صبح _____

6:30 پیر بدھ دوپہر دفتر میں جمع کروائی اور کنٹینر میں جاتی پینے گیا اس کے بعد _____

سے ایک دم لاپتہ ہو گیا۔ CCTV کیمرے میں پولیس لائن سے باہر نہیں آتے دیکھا گیا _____

آخری بار فنانس سے کب _____ 24 صبح _____ 85 _____ 06-4- _____

موجودہ _____ عبد الحلیم، محلہ گڑھی پیر، ان، فزانہ، ڈاکخانہ فزانہ، یا بان، تحصیل _____

مضلع پشاور _____

تعمیراتی _____ فزانہ _____

مستقر _____ الضمہ _____

Declaration

I, Ehsan ulah s/o Abdul Haleem
 r/o Mohammed Ghazi, Rehman, Khazana, Pestana
 do hereby authorize Defence of Human Rights and public service trust situated at 3rd
 Floor, Majeed Plaza, Bank Road Saddar Rawalpindi Pakistan through its
 chairperson or secretary general to forward and represent on my behalf the case of
 my disappeared brother/son/husband Muhammad Arshad
 s/o Abdul Haleem in any department or court of Pakistan
 and to any international organization like Working Group on Enforced or
 Involuntary Disappearance, UNO, Geneva Switzerland.

Deponent

Ehsan ulah

(Name)

لاپتہ شخص کے بارے میں مزید معلومات:

(14)

والدہ کا نام: جان زیبا

پیدائش کا مقام: سہاورد

شناختی کارڈ تاریخ اجرا: 30-3-2004

شناختی کارڈ کونسے شہر سے جاری ہوا: سہاورد

ذاتی ذریعہ آمدنی: ہاں / نہیں

کیا لاپتہ ہونے کے بعد کسی ذریعہ سے لاپتہ شخص کے بارے میں کبھی کوئی اطلاع ملی:

تاحال کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی

آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اغوا میں فوج یا پولیس یا ایجنسیاں ملوث ہیں:

کیونکہ پولیس لائن کے اندر سے ہی لاپتہ ہوا ہے

خاندان کے دیگر افراد جن سے رابطہ کیا جاسکے:

نام	رشتہ	فون نمبر
احسان اللہ	بھائی	0345-9425820
جاوید خان	بھائی	0346-4503619

درخواست دہندہ کا نام: احسان اللہ

درخواست دہندہ کی ولدیت: عبدالحکیم

درخواست دہندہ کا پیشہ: پوشاک صنعت

درخواست دہندہ کا تاریخ پیدائش: 01-01-1981

درخواست دہندہ کا شناختی کارڈ نمبر: 17301-9184718-5

درخواست دہندہ کا موجودہ پتہ: محکمہ ٹیکسٹائل، صہبہ رحمان، فزانہ ڈائن فزانہ، سہاورد

IEIME 0300-5930240

مقامی کاپی ٹی وی ایل اینڈ این / موبائل نمبر

کلا / نمبر / کلا / نمبر / کلا / نمبر

آیا کونڈی برسات یا تنظیم کا بھی رکن ہے نہیں

آیا کسی بنیادی یا سائنسی تنظیم کا رکن ہے نہیں

مقامی کے علاوہ کونساں دیگر ایف آئی آر کی تفصیلات FIR ٹاٹال درج نہیں ہوئی تو انہ لوہیں

لائسنس اور تعارفہ فخرانہ میں اطلاع دی ہے۔

تفصیلات کے ساتھ ساتھ نام اس سے رابطہ ہو سکے۔

نام احسن اللہ شہادت کی ذمیت ہائی

فونٹ 0346-4503619 موبائل 0345-9425820

کامیابی کے لئے وقت مقامی کے زیر استعمال آجی

ساخت	بنی	رنگ	مال	جسٹیشن نمبر	پیسری نمبر	نمبر نمبر

ذمہ داری احسن اللہ درج ذیل سے مندرجہ نام

ملک پاکستان ب۔ جاری ہو نے کی جاوے

تاریخ 24-7-2017 دستاویز مستحق

یہ معلومات مقامی کے لئے پیش درکار ثابت ہوں۔ لوہیں لائسنس کے اندر سے یہی لائسنس لیا گیا ہے کیونکہ سیکورٹی کیمپ کے میں باسیہ آتے نہیں دیکھا گیا۔

ذمہ داری

نام احسن اللہ محلہ گنڈی صہب رحمانی، فخرانہ ڈاکچی خانہ فخرانہ

پاپان و تحصیل و ضلع پشاور

موبائل نمبر 0345-9425820

ذمہ داری تاریخ 24 July - 2017

محلہ احسن

(16)

MOST IMMEDIATE

COMMISSION OF INQUIRY ON ENFORCED DISAPPEARANCES
DIRECTORATE GENERAL CIVIL DEFENCE BUILDING
(1ST FLOOR) MAUVE AREA, SECTOR G-9/1
ISLAMABAD

(Tele: 051-9106340, Fax: 051-9106344, E-Mail: coioed@gmail.com)

ColoED No. 4224-K

Islamabad, the 07th August, 2017

To:-

1. Director General, Intelligence Bureau, Islamabad
2. Home Secretary, Khyber Pakhtoonkhawa, Peshawar
3. Provincial Police Officer, Khyber Pakhtoonkhawa, Peshawar
4. Capital City Police Officer, Khyber Pakhtoonkhawa, Peshawar
5. Inspector General, FC, Khyber Pakhtoonkhawa, Peshawar
6. Director(Legal), Ministry of Defence, Rawalpindi
7. Directorate General ISI, Islamabad
8. MI Dte. GHQ, Rawalpindi

Subject:- ColoED NO. 4224-K – MUHAMMAD ARSHAD S/O ABDUL HALEEM

Please find enclosed herewith a copy of Proforma received through Amina Masood Janjua, Chairperson, Defence of Human Rights & Public Service Trust, in respect of the Missing Person cited in the subject.

2. In order to trace the whereabouts of Muhammad Arshad s/o Abdul Haleem, Home Secretary, Khyber Pakhtoonkhawa, Peshawar is directed to constitute a JIT which may convene its meeting immediately as provided in the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances Regulations, 2011.
3. The case may be processed in terms of relevant provisions of the Regulations ibid.
4. For PPO Khyber Pakhtoonkhawa only: FIR of the case may be registered immediately in the concerned Police Station and copy thereof be sent to this Commission at an early date.
5. The report of JIT be furnished to the Secretary of the Commission on or before 28th August, 2017.
6. By orders of the Commission.

Encl: (As above)

(Farid Ahmad Khan)
Secretary (ColoED)
Fax: 051-9106344

کاپی برائے اطلاع:-

۱۔ محترم احسان اللہ، رہائش۔ محلہ گروہی، میر رحمان خزانہ ضلع، پشاور {موبائل نمبر 0345-9425820} کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایف۔ آئی۔ آر کے اندراج کے لیے ملاحظہ تھانے میں رجوع کریں نمیشن میں تاریخ پیش کی اطلاع آپ کے دیے ہوئے موبائل پر دی جائے گی۔
2۔ آمنہ سعود جنجوعہ، چیئر پرسن ڈیفنس آف ہیومن رائٹس۔ تھرو فلور مجید پلازہ، بینک روڈ، راولپنڈی کینٹ۔

(Farid Ahmad Khan)
Secretary (ColoED)

Annexure 'C'

(17)

102-6
17

ORDER

This office order relates to the disposal of formal departmental enquiry against Constable Arshid No.5174 of Capital City Police Peshawar on the allegations that he while posted at Police Lines, Peshawar absented himself from lawful duty w.e.f 26.03.2017 till date without taking permission or leave.

In this regard, he was issued charge sheet and summary of allegations. DSP H.Qrs: Peshawar was appointed as Enquiry Officer. He conducted the enquiry proceedings and submitted his report/finding that the alleged official has been abroad. Being a government servant he should have to seek departmental permission to proceed abroad but he avoided. Beside, this he deliberately absent from duty w.e.f. 26.03.2017 till date and found guilty of the misconduct. The Enquiry Officer further recommended him for major punishment vides Enquiry Report No.3044/ST dated 15.05.2017.

Upon the finding of E.O, he was issued final show cause notice and delived to him on home address through local Police Station Khazana but he failed to submit his explanation of the said notice in self defense or appeared before this office as yet.

In light of the finding of E.O & other material available on the record, the undersigned came to conclusion that he is guilty of the misconduct and found unwilling worker. Therefore, he is awarded this major punishment of dismissal from service with immediate effect. Hence, the period he remained absent from 26.03.2017 till date is treated without pay.

E1 (18)


SUPERINTENDENT OF POLICE
HEADQUARTERS, PESHAWAR

OB. NO. 2211 / Dated 29/5 /2017

No. 2545-52/PA/SP/dated Peshawar the 29/5 /2017

Copy of above is forwarded for information & n/action to:

- ✓ The Capital City Police Officer, Peshawar.
- ✓ DSP/HQrs, Peshawar.
- ✓ Pay Officer
- ✓ OASI, CRC & FMC along-with complete departmental file.

گورنمنٹ آف پاکستان - ایس ایس سی

پیش کردہ عدد دوبارہ چابی


صاف علی

خود بخود گورنمنٹ آف پاکستان کے حکم پر ایس ایس سی میں
 لکھنؤ ٹیسٹ میں ڈیوٹی لایا گیا ہے۔ لائن لکھنؤ میں انجام دیا گیا
 اس امر کی وضاحت فرم ہے کہ $\frac{03}{25}$ کو $\frac{03}{2017}$ کو
 2 اپ ڈیوٹی میں انجام دی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان
 لکھنؤ میں سٹیٹ ٹیکس کا معلوم افراد نے انکوارڈ کیا،
 اور سٹیٹ ٹیکس میں سٹیٹ ٹیکس کا حساب لگایا گیا
 اور سٹیٹ ٹیکس 2022 میں سٹیٹ ٹیکس لگایا گیا، $\frac{06}{01}$
 کو سٹیٹ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ لکھنؤ میں سٹیٹ ٹیکس لگایا گیا۔
 سٹیٹ ٹیکس کو لگایا گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان میں سٹیٹ ٹیکس لگایا گیا

لکھنؤ سٹیٹ ٹیکس لگایا گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان میں سٹیٹ ٹیکس لگایا گیا

حکم صادر فرمایا گیا
 3 $\frac{6}{2022}$ (المترجم) سٹیٹ ٹیکس

ایکٹائمنگ، گورنمنٹ آف پاکستان، سٹیٹ ٹیکس لگایا گیا، 5987
لکھنؤ



19

3/2

(پانچواں باب کے تحت)

11/2013

محکمہ نیا ذلہ (پانچواں باب کے تحت) کے تحت جو ان کے تحت
کے تحت جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت


میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

میں جو ان کے تحت

C980782

20



استاد و کرم عبدالحکیم صاحب مدظلہ العالی سے مبارک دعا کیلئے جو مجھ پر فی کلمہ بالاسم غل
کہا گیا ہے اور اس کی قدر و قیمت اس کے برابر ہے اس لئے اس کو یاد رکھو

اللہ

شیخ الاسلام و کرم عبدالحکیم صاحب مدظلہ العالی سے مبارک دعا کیلئے - 7- 185185-3901

0301-5918688



شیخ الاسلام

[Faint, illegible text]

حکومت اور خبریں کی پوری سہولت کے لئے
کئی معمولی تازے پر 2 بھائیوں
کو موت کے گھاٹ اتار دیا




خبر بخونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی پورٹری بس سیدہ فراتز منسوبہ کا جنازہ کر رہے ہیں

ب سے بڑے اور دعووں سے عام کو بہلا رہی ہے۔ خبرناموں کو
مانے اس کی سبب باغ و کھار ہے ہیں جس سے امیدیں باہمی میں
سایا۔ سابقہ پبلر ڈی این خیالات (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 41)

نیدر ہوتی کوشاندار خراج تحسین

سویائی استقامت والے سوہانی صدر بخونخوا کوشاندار افسانہ میں خراج
سوسے پارٹی کے تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ حیدر ہوتی نے مسلسل
سکدوش ہونے محنت کی وجہ سے ان (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 42)



مرکز میں سوہانی کونسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں

ڈبلیو ایس ایس پی کو اپریشنل گرانٹ دینے سے معذرت

معائنہ خصوصی برائے آئی کی ڈی درخواست بھی کام آئی تھی کی کارکردگی پر تنقید
پشاور (شاف رپورٹر) ہاؤس کونسل دن کے اجلاس انکار کر دیا جبکہ ڈبلیو ایس ایس پی کے معائنہ خصوصی برائے
میں اس کیلئے نے ڈائریجنٹ کی پیشکش سروسز پشاور انڈرٹیکننگ ڈیپارٹمنٹ کی کامران گلش کی ڈبلیو ایس ایس
(ڈبلیو ایس ایس پی) کو اپریشنل گرانٹ دینے سے بی کو گرانٹ دینے کی (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 47)

پشاور بورڈ انٹرمیڈیٹ کیلئے 361 مراکز قائم

ایک لاکھ 14 ہزار طلبہ حصہ لیں گے 1280 اساتذہ ذہنی دہنگے پروفیسر ملک مقصود انور
پشاور (شاف رپورٹر) ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ عمل کر لے گئے ہیں کنٹرولر اجلاس
پشاور کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات مقصود انور کے معاونین نے 2 قابل اعلیٰ
پر اپریل سے شروع ہو گئے جس کیلئے اختیارات سمیت سوہنے کے 5 (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 48)

نئی جوڈیشل پالیسی کا منظر دکھانے کا آج خواتین کا ملان

پاکستان بار کونسل کی کال پر احتجاج تیسرے ہفتے میں داخل پالیسی کی واپسی تک ہڑتال جاری رکھیں گے وکلاء
پشاور (خبر پورٹر) سپریم کورٹ آف پاکستان کی نئی جاری رکھا ہے اور آج محرمات کے روز تیسرے ہفتے بھی وکلاء نے (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 57)

گلشن کا ونی، دن دیہاڑے جنرل سٹور میں ڈکیتی

3 سیکڑا لوٹ لیا گیا، روپ میں گس آئے اور ایک کو فریال بنا کر گھڑی اور دیگر اشیاء لوٹ لیں
پشاور (دقائق نگار) گلشن گلشن کا ونی نے سہ ماہی کی بی بی فوج حاصل کر کے مختلف پولیس نے سی سی ٹی وی فوج حاصل کر کے مختلف
میں دن دیہاڑے میں سیکڑا لوٹ لیا گیا اور ایک کو فریال بنا کر گھڑی اور دیگر اشیاء لوٹ لیں پولیس نے سی سی ٹی وی فوج حاصل کر کے مختلف
میں گس کو لاکھوں کی نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ لیں کے مالک محمد اشفاق (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 58)

ڈیرہ میں دیوار گرنے سے پولیس حوالدار جاں بحق

آزادی اور وطن سے چیک پوسٹ کے قریب بجلی کی مین لائن ٹوٹ
ڈیرہ اسماعیل خان (فرماندہ خصوصی) تیز آمدی میں گذشتہ روز تیز آمدی کی اورطوفان کے باعث ڈیرہ اسماعیل خان (فرماندہ خصوصی) تیز آمدی میں گذشتہ روز تیز آمدی کی اورطوفان کے باعث
اورطوفان سے سستی دکھانوالی میں دیوار گرنے سے زخمی دوہم برہم ہو کر رہ گیا۔ بجلی کی مین لائن ٹوٹ کر اورطوفان سے سستی دکھانوالی میں دیوار گرنے سے زخمی دوہم برہم ہو کر رہ گیا۔ بجلی کی مین لائن ٹوٹ کر
ایف آئی حوالدار جاں بحق ہو گیا ڈیرہ اسماعیل خان اس دوران ڈیوٹی میں تھا (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 59)

4 ریسیکو دفاتر قائم کرنے کا فیصلہ

اجلاس ریسیکو منسوبہ 4 سالہ پروگرام میں شامل
آرمورڈ خان کی سیکرٹری خیر بخونخوا سیم خان کی زیر صدارت ام آرمورڈ خان کی سیکرٹری خیر بخونخوا سیم خان کی زیر صدارت ام
دور کرنے اور اجلاس منعقد ہوا چیف سیکرٹری نے ایگزیکٹو ریسیکو دور کرنے اور اجلاس منعقد ہوا چیف سیکرٹری نے ایگزیکٹو ریسیکو
بات پر چیف سروس ریسیکو 1122 (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 44)

خیبر روڈ پر تیز رفتار گاڑی الٹ گئی، طالب علم جاں بحق، دوست زخمی

تیز رفتار گاڑی کے باعث گاڑی حادثہ کا شکار ہوئی مقدمہ درج کر لیا گیا
پشاور (دقائق نگار) تھانہ شرقی کی حدود خیبر روڈ پر حادثے کے تیز رات سیکرٹری آئی گاڑی کا لوٹی روٹ کر روٹا اپنے دوست محمد شمیم
زندگی کے باعث ٹریک حادثہ میں جو شامل لڑکا جاں بحق ولد سلیم خان سکندر روٹ کر روٹا کے ہمراہ گاڑی میں جا رہا تھا کہ زندگی کے باعث ٹریک حادثہ میں جو شامل لڑکا جاں بحق ولد سلیم خان سکندر روٹ کر روٹا کے ہمراہ گاڑی میں جا رہا تھا کہ
جو اس کا دوست شہید زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق گذشتہ اس دوران خیبر روڈ پر تیز رفتاری (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 45)

ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

کلیں کیلئے پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

کلیں کیلئے پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

کلیں کیلئے پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

کلیں کیلئے پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

کلیں کیلئے پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

کلیں کیلئے پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

کلیں کیلئے پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل

پشاور (دقائق نگار) نئی پولیس نے باپ کو قتل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل کرنا کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل
دفعہ کے ساتھ ساتھ ایف آئی آر میں 302 کے ساتھ دفعہ 202 بھی شامل (بانی صفحہ 10 بقیہ نمبر 61)

وکالت نامہ

بعدالت: صاحب کمرہ برائے منجانب

محمد ارشد بنام حکومت رزن

منجانب ایسے منجانب دعویٰ

تاریخ 20/5/2010

باعث تحریر آنکہ مقدمہ مندرجہ بالا عنوان اپنی طرف سے داخل پیروی و جوابدہی
 بمقام لکھنے کیلئے جاوید اقبال گل بیلہ ایڈووکیٹ لکھنؤ کی کورٹ کو بدین شرط وکیل
 مقرر کیا ہے۔ کہ میں ہر پیشی کا خود یا بزرگیہ مختار خاص رو برو عدالت حاضر ہوتا رہوں گا۔ اور بوقت پکارے جانے مقدمہ وکیل
 صاحب موصوف کو اطلاع دے کر حاضر عدالت کرونگا، اگر پیشی پر من مظهر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے
 کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہونگے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر
 مقام کچہری کی کسی اور جگہ یا کچہری کے مقررہ اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل پیروی کرنے کے ذمہ دار نہ ہونگے۔ اگر
 مقدمہ علاوہ صدر مقام کچہری کے کسی اور جگہ ساعت ہونے یا بروز تعطیل یا کچہری کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے پر
 من مظهر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا مختار نہ واپس کرنے کے بھی
 صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہونگے۔ مجھے کوکل ساختہ پرداختہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور
 صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ و جواب دعویٰ اور درخواست اجراء ڈگری و نظر ثانی اپیل و نگرانی ہر قسم کی درخواست پر دستخط و
 تصدیق کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور کسی حکم یا ڈگری کے اجراء کرانے اور ہر قسم کے روپیہ وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل
 کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور سپروٹاشی و راضی نامہ فیصلہ برخلاف کرنے اقبال دعویٰ دینے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور
 بصورت اپیل و برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری یکطرفہ درخواست حکم امتناعی یا ترقی یا گرفتاری قبل از اجراء ڈگری بھی موصوف
 کو بشرط ادائیگی علیحدہ مختار نہ پیروی کا اختیار ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو بھی اختیار ہوگا یا مقدمہ مذکورہ یا
 اس کے کسی جزوی کاروائی کے واسطے یا بصورت اپیل، اپیل کے واسطے دوسرے وکیل یا پیر سٹر کو بجائے اپنے یا اپنے ہمراہ
 مقرر کریں اور ایسے مشیر قانون کے ہر امر وہی اور ویسے ہی اختیارات حاصل ہونگے جیسے کے صاحب موصوف کو حاصل
 ہیں۔ اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ التواء پڑے گا۔ اور صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ اگر وکیل صاحب موصوف کو
 پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کرونگا تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ مقدمہ کی پیروی نہ کریں اور ایسی صورت
 میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔ لہذا مختار نامہ لکھ دیا کہ سند ہے۔
 مورخہ 20/5/2010

Accepted by

محمد ارشد

ایڈووکیٹ

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.

Service Appeal No.11499/2020.

Ex- Constable Muhammad Arshad No.5997 of CCP, Peshawar.....**Appellant.**

VERSUS.

Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others..... **Respondents.**

INDEX

S.NO	DOCUMENTS	ANNEXURE	PAGE NO
1.	Memo of comments	----	1-3
2.	Affidavit	----	4
3.	Copy of charge Sheet	A	5
4.	Copy of allegations	B	6
5.	Copy of inquiry report	C	7
6.	Copy of FSCN	D	8
7.	Copy of statement	E	9

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.

Service Appeal No.11499/2020.

Ex- Constable Muhammad Arshad No.5997 of CCP, Peshawar.....**Appellant.**

VERSUS

Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others. **Respondents.**

REPLY BY RESPONDENTS NO. 1, 2, &3.

Respectfully Sheweth:-

PRELIMINARY OBJECTIONS:-

1. That the appeal is badly barred by law & limitation.
2. That the appeal is bad for mis-joinder and non-joinder of necessary and proper parties.
3. That the appellant has not come to Hon'able Tribunal with clean hands.
4. That the appellant has no cause of action and locus standi.
5. That the appellant is estopped by his own conduct to file the instant appeal.
6. That the appellant has concealed the material facts from Honorable Tribunal.
7. That the appeal is not maintainable being devoid of any merit.

REPLY ON FACTS:-

- (1) Para pertains personal information of appellant.
- (2) Para pertains to record.
- (3) Para pertains to record.
- (4) Incorrect and misleading. Infact the appellant while posted at Police Lines Peshawar absented himself from official and lawful duty w. e. from 26.03.2017 till the date of dismissal from service i.e 29.05.2017 without prior permission or leave from the competent authority. In this regard he was issued charge sheet with statement of allegations. DSP HQrs: was appointed as enquiry officer. The enquiry officers finalized the enquiry and submitted findings report that the appellant has been gone to abroad (Afghanistan). Being a member of disciplined force he should have to seek permission/leave to proceed aboard, but he avoided and deliberately absented himself from lawful duty. After receipt of the findings report, Final Show Cause Notice was issued to him and sent him on home address, but he avoided to appear and defend himself. After observing all codal formalities, he was awarded major punishment of dismissal from service.(copy of charge sheet, statement of allegations, enquiry report, Final Show Cause Notice are annexure as A,B,C,D)

- (5) Incorrect. Infact the appellant willfully absented himself from lawful duty without any prior permission or leave. The appellant was not interested in official duty and enjoying his long absence period without any leave permission. The enquiry officer after conducting the enquiry submitted his finding report that the appellant intentionally absented himself from his lawful duty and went to Afghanistan, wherefrom he make a call bearing No.0093730952549 to Muharrar ASI Sajjad Siraj on his cell No.030.5968840 and stated that I have gone to Afghanistan; further stated that the salaries of Police is unlawful. After fulfilling all the codal formalities, he was awarded the major punishment of dismissal from service vide order dated 29.05.2017. (Statement of Sajjad is annexure as E).
- (6) Incorrect. Para already explained in detail in the above para. However he deliberately absented himself from his lawful duty without leave /permission. After completion of all codal formalities the punishment order was passed by competent authority in pursuance of his long absence period which is not tolerable in the disciplined force.
- (7) Incorrect. As per record the appellant did not filed departmental appeal before the appellate authority. Legally, the appellant was required to file departmental appeal before the appellate authority, but having no defendable grounds, he irrespective of law, filed Service Appeal before the Honorable Service Tribunal.
- (8) Incorrect. The allegations against the appellant was proved and after fulfilling all the codal formalities he was rightly awarded the major punishment. The appeal of the appellant being devoid of merits may kindly be dismissed.

GROUND:-

- A. Incorrect. The appellant was treated as per law/rules. After fulfilling all the codal formalities, he was awarded the major punishment of dismissal from service and liable to be upheld.
- B. Incorrect. Proper departmental enquiry was conducted against him. The enquiry officer conducted thorough probe into the matter and found the appellant guilty of the charges. The whole enquiry was conducted purely on merit.
- C. Incorrect. Charge sheet with statement of allegations was issued to him. Regular inquiry was conducted and thereafter, he was issued a final show cause notice hence after fulfilling all the codal formalities he was awarded the major punishment of dismissal from service.
- D. Incorrect. Para already explained in detail in the above paras.
- E. Incorrect. After completion of the enquiry proceedings, the appellant was issued final show cause notice.
- F. Incorrect. The appellant was treated as per law/rules. After completion of all codal formalities he was awarded appropriate punishment as per law/rules.

G. Incorrect. Para already explained in para No.05 and 07.

H. Incorrect. Being a member of a disciplined force, the appellant was well aware about the proceedings. However he deliberately absented from his lawful duty without leave /permission. Therefore, the punishment order was passed by competent authority in pursuance of his long absence period which is not tolerable in the disciplined force.


I. Incorrect. The punishment order passed by the competent authority is just legal and has been passed in accordance with law/rules and liable to be upheld.


J. Respondents also seek permission of this Honorable Tribunal to raise additional grounds at the time of arguments.

Prayers:-

Keeping in view the above stated facts & reasons it is, most humbly prayed that the appeal of the appellant being devoid of merits and limitation, may kindly be dismissed with costs please.


Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.


Capital City Police Officer,
Peshawar.


Superintendent of Police,
HQrs: Peshawar.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR.

Service Appeal No.11499/2020.


Ex- Constable Muhammad Arshad No.5997 of CCP, Peshawar.....**Appellant.**


VERSUS.

Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others. **Respondents.**

AFFIDAVIT

We respondents No. 1 ,2 & 3 do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the written reply are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has concealed/kept secret from this Honorable Tribunal.


**Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.**


**Capital City Police Officer,
Peshawar.**


**Superintendent of Police,
HQrs: Peshawar.**

A

(6)

CHARGE SHEET

I, Superintendent of Police, Headquarters, Capital City Police Peshawar, as a competent authority, hereby, charge that Constable Arshid No.5174 of Capital City Police Peshawar with the following irregularities.


"That you Constable Arshid No.5174 while posted at Police Lines, Peshawar were absent from duty w.e.f. 26.03.2017 till date without taking permission or leave. This amounts to gross misconduct on your part and is against the discipline of the force."

You are, therefore, required to submit your written defence within seven days of the receipt of this charge sheet to the Enquiry Officer committee, as the case may be.

Your written defence, if any, should reach the Enquiry Officer/Committee within the specified period, failing which it shall be presumed that have no defence to put in and in that case ex-parte action shall follow against you.

Intimate whether you desire to be heard in person.

A statement of allegation is enclosed.


SUPERINTENDENT OF POLICE,
HEADQUARTERS, PESHAWAR

B

5

DISCIPLINARY ACTION

I, Superintendent of Police, Headquarters, Capital City Police Peshawar as a competent authority, am of the opinion that Constable Arshid No.5174 has rendered him-self liable to be proceeded against under the provision of Police Disciplinary Rules-1975

STATEMENT OF ALLEGATION

Police Lines,

"That Constable Arshid No.5174 while posted at ~~PS Sarband~~, Peshawar absented himself from duty w.e.f.26.03.2017 till date without taking permission or leave. This amounts to gross misconduct on his part and is against the discipline of the force."

For the purpose of scrutinizing the conduct of said accused with reference to the above allegations an enquiry is ordered and DSP-14021 is appointed as Enquiry Officer.

2. The Enquiry Officer shall, in accordance with the provisions of the Ordinance, provide reasonable opportunity of hearing to the accused officer, record his finding within 30 days of the receipt of this order, make recommendations as to punishment or other appropriate action against the accused.
3. The accused shall join the proceeding on the date time and place fixed by the Enquiry Officer.

Basim
SUPERINTENDENT OF POLICE,
HEADQUARTERS, PESHAWAR

No. 102-E /E/PA, dated Peshawar the 21/4 /2017

1. DSP-14021 is directed to finalize the aforementioned departmental proceeding within stipulated period under the provision of Police Rules-1975.
2. Official concerned

No. 3044 /ST

Dated 18.05.2017.

Enclosures (9).

DEPARTMENTAL ENQUIRY REPORT.

Please refer to your Office Order No.102/E/PA dated 21.04.2017 against FC Arshid No.5174. This enquiry has been initiated on the basis of the following allegations:-

That Constable Arshid No.5174 while posted at Police Lines Peshawar absented himself from duty w.e.f. 26.03.2017 till date without taking permission or leave. This amounts to gross misconduct on his part and is against the norms of discipline force.

In order to scrutinize the conduct of said official with reference to the above allegations an enquiry was ordered and the undersigned has been appointed as enquiry officer in the matter.

Proceedings:-

During enquiry proceedings, accused official i.e. Constable Arshid No.5174 was summoned vide No.1362, dated 24.04.2017, No.1396, dated 26.04.2017 & No.1442, dated 01.05.2017 but he failed to comply the orders. In this regard Line Officer-I & ASI Sajjad Siraj have also been contacted and their statements recorded as under:-

Statement of ASI Sajjad Siraj:-

ASI Sajjad Siraj stated that Incharge RP HC/Ghaffar Khan informed him that Constable Arshid No.5174 absented himself from lawful duty vide DD No.08, dated 26.03.2017 till date without seeking permission or leave. He further stated to have received a call on 14.09.2017, details of which have been scribed in Daily Diary No.46, dated 15.04.2017.


Line Officer-I:-

He stated that Constable Arshid No.5174 absented himself from his lawful duty vide DD No.08, dated 26.03.2017 without seeking permission or leave. The Moharrar/ASI Sajjad Siraj of Police Lines informed him that the said constable had gone to Afghanistan. The report has been entered in Daily Diary vide No. 46, dated 15.04.2017.

FINDINGS:

From the foregoing circumstances, statements recorded and other material available on record, it came to light that the defaulter constable intentionally went absent without seeking permission or leave from his seniors which has been verified by ASI Sajjad Siraj and Line Officer-I Ihsanullah Khan in their statement duly supported by DD reports No.08, dated 26.03.2017 & No.46, dated 15.04.2017. Both the statements duly verified/attested by RI/HQrs: Razi Khan Police Lines Peshawar. Reportedly he has gone to Afghanistan where from he make a call bearing No.0093730952549 to ASI Sajjad Siraj on his cell No.0300-5968840 vide DD No.46, dated 15.04.2017. Being a government servant he should have sought departmental permission to go abroad which he avoided and thus held guilty of charges. He is therefore, recommended for major punishment and strict departmental action.

Submitted please



Dy: Superintendent of Police
HQrs: CCP Peshawar.

W / SP / HQrs:

PA 85
ISSUE Final Se.
Basim
18.5.2017

D

(2)

FINAL SHOW CAUSE NOTICE


I Superintendent of Police, Headquarters, Capital City Police Peshawar, as competent authority, under the provision of Police Disciplinary Rules 1975 do hereby serve upon you, Constable Arshid No.5174 the final show cause notice.

The Enquiry Officer, DSP H.Qrs: after completion of departmental proceedings, has recommended you for major punishment for you Constable Arshid No.5174 as the charges/allegations leveled against you in the charge sheet/statement of allegations.

And whereas, the undersigned is satisfied that you Constable Arshid No.5174 deserve the punishment in the light of the said enquiry report.

I, competent authority, have decided to impose upon you the penalty of minor/major punishment under Police Disciplinary Rules 1975.q

1. You are, therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you and also intimate whether you desire to be heard in person.
2. If no reply to this notice is received within 7 days of its receipt, in normal course of circumstances, it shall, be presumed that you have no defence to put in and in that case as ex-parte action shall be taken against you.


SUPERINTENDENT OF POLICE,
HEADQUARTERS, PESHAWAR.

No. 10219 /PA, SP/HQrs: dated Peshawar the 18/05/2017.

Copy to official concerned

منہ لکھو

نمبر 4 روزنامہ 15⁴/₁₇

اندر سرورین

سید سراج اورین دست 9:40 بجے 15⁴/₁₇ میں رضیہ
 خواجہ نے 4 روزنامہ 13⁴/₁₇ بعد وزارت کے دو روزہ صحت سے
 واپس آیا۔ دن کے صبح میں 14⁴/₁₇ کو گورنر
 میں سو ریا خانہ بوقت 16:28 بجے سیرت ذاتی واپس
 منیت 03005962240 (فون نمبر) 5093730952549 سے مال
 آرٹسٹ 5174 طارق ریا
 اٹھا جو کہ اپنے آپ کو سٹیٹک آرٹسٹ 5174 طارق ریا
 کہا اور کہہ گیا کہ میں اصحابان جلد باری
 اور پولیس کی تحریک میں اسے فوری جواب
 دیا کہ آپ بیمار سے یاد نہیں کرتے پولیس
 گئی ہے اور آپ اپنی حاضر سے اور ان میں
 حاضر ہو۔ یہ بات سنی ہے مال سٹیٹک
 آرٹسٹ 5174 خواجہ نے 8 روزنامہ 17³/₂₆ سے بدستور حاضر سے
 سید اختر انساہ کے فون میں (اما جا ر) رپورٹ اخطار
 منہ مندا ہے

46 ویں
رپورٹ

صبا علی
عصافی اصل بندہ

17/4/17

Forwarded PC

[Signature]
R/HO

PA SB
Process the
Case. Issue
SC

Forwarded P
[Signature]

Sir,
Forwarded for
Personal At.

[Signature]
29/4/17
R/HO

**BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES
TRIBUNAL PESHAWAR**

In S.A 11499/2020

M. Arshad Khan


Versus

Inspector General of K.P.K & Others

INDEX

S#	Description of Documents	Annex	Pages
1.	Rejoinder		1-4
2.	Affidavit.		5

Dated: 06/10/2021


Appellant

Through


JAVED QBAL GULBELA,
Advocate, Supreme Court of
Pakistan

Off Add: B-1, Al-Nimrah Centre, Govt College Chowk Peshawar

**BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES
TRIBUNAL PESHAWAR**

In S.A 11499/2020

M. Arshad Khan

Versus

Inspector General of K.P.K & Others

**REJOINER ON BEHALF OF THE APPELLANT TO THE COMMENTS
FILED BY THE RESPONDENTS NO. 01 TO 03**

Respectfully Sheweth,

Reply to Preliminary Objections:

Para 1 to 7:

All the preliminary objections raised & agitated by the Respondents are false, concocted, misleading, & hypocritic, hence are denied sternly. Not only the Appellant has got a good prima facie case having locus standi, to file the instant Appeal, but the instant Appeal is also strictly as per law & has rightly been moved against the impugned order dated 29-05-2017. The Service Appeal moved by the Appellant is well in time. Moreover this Hon'ble Tribunal has got the jurisdiction to entertain the instant service Appeal. The appellant did not conceal any fact from this Hon'ble Tribunal, And knock the door of this Hon'ble Tribunal for acknowledgement, recognition, protection and enforcement of his fundamental rights in shape of re-instatement into service with all back benefits.

On Facts:

1. Para "1" of the comments need no reply.
2. Para "2" of the Reply is hypocritic, hence denied. While the corresponding Para of the main appeal is true and correct.
3. Para "3" of the Reply is hypocritic, hence denied. While the corresponding Para of the main appeal is true and correct.
4. Para "4" of the Reply is incorrect, false, misleading, illegal and unlawful, hence sternly denied. Moreover true, correct, and detail picture is portrait in the main appeal of the appellant.
5. Para "5" of the Reply is incorrect, wrong, misconceiving, illegal and void-ab-initio; therefore sternly denied. Moreover true, correct, and detail picture is portrait in the corresponding Para of the main appeal.
6. Para "6" of the Reply is incorrect, misleading, wrong, misconceiving, illegal, unlawful and void-ab-initio; therefore sternly denied. Moreover true, correct, and detail picture is portrait in the corresponding Para of the main appeal.
7. Para "7" of the Reply is incorrect, wrong, misconceiving, illegal and void-ab-initio; therefore sternly denied. Moreover true, correct, and detail picture is portrait in the corresponding Para of the main appeal. It is pertinent to mention here that when the Appellant was release from "illegal confinement of unknown culprits", then he directly reported to his police department, wherein he was inform about his dismissal from service, thereafter

the appellant moves Departmental appeal, but inspite of laps of statutory period his departmental appeal was not decided, Hence the instant service appeal to this Hon'ble Tribunal in accordance with law.

8. Para "8" of the Reply is incorrect, false, misleading, illegal and unlawful, hence sternly denied. Moreover true, correct, and detail picture is portrait in the main appeal of the appellant.

On Grounds:

A. Para "A" of the Reply is incorrect, false, misleading, illegal and unlawful, hence sternly denied.

B. Para "B" of the Reply is incorrect, false, misleading, illegal and unlawful, hence sternly denied. While the corresponding Para of the main appeal is true and correct.

C. Para "C" of the Reply is incorrect, false, misleading, illegal and unlawful, hence sternly denied. While the corresponding Para of the main appeal is true and correct.


D. Para "D" of the reply is incorrect and denied, while that of the main appeal is correct.

Para "E" to "J" of the reply are incorrect, false, concocted, illegal, unlawful and against the law as well as hypocritic; therefore sternly denied. Moreover True, legal, lawful, correct and detailed picture has already been portrayed in the main appeal as well as in the preceding paras.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of the instant rejoinder, the appeal of the Appellant may graciously be allowed, as prayed for therein.

Dated: 03/06/2022.

Through


Appellant


Javed Iqbal Gulbela
ASC


Saghir Iqbal Gulbela
&

Ahsan Sardar
Advocates, High Court
Peshawar.

**BEFORE THE HON'BLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES
TRIBUNAL PESHAWAR**

In S.A 11499/2020

M. Arshad Khan

Versus

Inspector General of K.P.K & Others

AFFIDAVIT


I, the Appellant, do hereby solemnly affirm and declare that all the contents of the accompanied rejoinder are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld from this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT

CNIC: 17301-7456895-9

Cell No. 0318-9295955

Identified By:


Javed Iqbal Gulbela
ASC

